

Translate the following passage into English.

ایک اچھی حکومت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اہل ملک کے لئے ضروریات زندگی دستیاب کرے۔ ضروریات زندگی سے مراد محض اناج ہی نہیں، اناج، کپڑا، طبی سہولتیں، تعلیم وغیرہ بھی ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ حکومت کو یقینیں کرانے کی پوری کوشش کرنی چاہئے تاکہ دیہاتی اور شہری دونوں طبقوں سے تعلق رکھنے والے عوام آرام و زندگی بسر کر سکیں۔ ہماری رائے میں اس وقت عوام کی اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ضروریات زندگی کو سستا کیا جائے اور ان کی بہم رسانی کا ایسا انتظام کیا جائے کہ ہر شخص اپنی ضروریات زندگی مناسب مقدار میں اور مناسب قیمت پر حاصل کر سکے۔ صرف یہی اقدام حکومت کی ہر دوسری کی ضمانت ہو سکتا ہے۔

Avoid cutting.

Translation:

The biggest responsibility of a good government is ~~that~~ to reduce the prices of the essentials of life for its citizens. The essentials of life do not mean ^{only} staple food, but staple food, ^{clothes} health facilities and education etc are all parts of the essentials of life. The government should make its full effort to bring down the prices so that people belonging to both rural and urban classes can ^{comfortably} spend their lives. ~~comfortably~~. In our opinion, currently there could be no other lofty service to the general public than reducing the prices of the basic necessities. Moreover, there should be ~~make~~ ^{an} ~~arrangement~~ of its easy access so that every person can get the basic necessities in sufficient quantity and with affordable prices. Only these measures can guarantee the wide accolade of government in the hearts of the public.